

33594 - شرم کے مارے حالت حیض میں ہی نماز ادا کر لی

سوال

ایک لڑکی نے شرم کے مارے حالت حیض میں ہی نماز ادا کر لی تو اس کا حکم کیا ہے اور اس کا کیا کفارہ ہے؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله:

امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ:

امت کا اجماع ہے کہ حائضہ عورت کے لیے نفلی اور فرضی نماز ادا کرنی حرام ہے۔

دیکھیں: المجموع للنووی (2 / 351)۔

شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے اس کے متعلق دریافت کیا گیا تو ان کا جواب تھا:

" حائضہ یا نفاس والی عورت کے لیے نماز ادا کرنا حلال نہیں، کیونکہ عورت کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

" کیا ایسا نہیں کہ جب اسے حیض آتا ہے تو وہ نہ نماز ادا کرتی ہے اور نہ ہی روزہ رکھتی ہے؟ "

اور مسلمانوں کا اجماع ہے کہ حائضہ عورت کے لیے نہ تو روزہ رکھنا حلال ہے اور نہ ہی نماز ادا کرنی، جس عورت نے بھی یہ کام کیا اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ و استغفار کرنی چاہیے "

دیکھیں: فتاویٰ المرأة المسلمة (1 / 285)۔

والله اعلم .